

طلبا

اٹھارہ سال اور اس سے بڑی عمر کے طلباء

I. بالغ طلباء کے حقوق

اٹھارہ سال کے طلباء جو اس عمر کو پہنچ چکے ہیں، ورجینیا کوڈ 1-203 اور 1-204 کے مطابق، اپنے والدین یا سرپرستان کی جگہ پر درج ذیل میں کام کر سکتے ہیں:

A. حاضری اور چھٹی کے اوقات. طالبعلم/طالبہ کے پرنسپل یا نامزد کردہ کو اختیار حاصل ہے کہ طبی بنیادوں پر غیر حاضری یا جلدی چھٹی کی صورت میں غیر حاضری/جلدی چھٹی کی وجہ کی تصدیق کیلئے طالبعلم/طالبہ کے والد یا والدہ/سرپرست سے رابطہ کریں یا ڈاکٹر کے نوٹ کی درخواست کریں۔

B. فیلڈ ٹریپس۔

C. تیسرے فریقین کا طالبعلم/طالبہ کے ریکارڈ تک رسائی کا اجازت نامہ (ماسوائے ان افراد کے جن کو رضا مندی کے بغیر رسائی حاصل ہے)۔

D. جز وقتی ملازمت۔

E. گاڑیوں کا استعمال۔

F. پولیس کی پوچھ گچھ۔

II. اٹھارہ سال کی عمر کے اقرار نامے کے فارم کا استعمال

پرنس ولیم کاؤنٹی کے وہ طلباء جو 18 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، وہ اٹھارہ سال کی عمر کے اقرار نامے کے فارم (منسلکہ I) کو مکمل کر کے بحیثیت بالغ طلباء اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ فارم ہر بائی سکول میں دستیاب ہے۔ طلباء کو تاکید کی جاتی ہے کہ یہ فیصلہ کرنے سے قبل اپنے والدین/سرپرستوں سے مشورہ کریں۔

اقرار نامے کے فارم پر طالبعلم/طالبہ، پرنسپل یا نامزد کردہ کے دستخط لازمی ہیں۔ اس فارم کی ایک نقل طالبعلم/طالبہ کے تعلیمی ریکارڈ میں رکھی جائے گی اور اس کی نقول طالبعلم/طالبہ اور ان کے والدین/سرپرستوں کو فراہم کی جائیں گی۔

اقرار نامے کی شقیں اس وقت تک نافذالعمل رہیں گی جب تک طالبعلم/طالبہ گریجویٹ نہیں ہو جاتا یا پرنسپل کو تحریری طور پر مطلع نہیں کیا جاتا کہ طالبعلم/طالبہ اپنے اقرار نامے سے نکلنا چاہتا/چاہتی ہے۔

.III. بالغ طلباء اور ان کے والدین/سرپرستوں کیلئے دستخط شدہ اقرار نامے کے اثرات

ورجینیا قانون کے تحت، دستخط شدہ اقرار نامہ والد یا والدہ(والدین)/سرپرست(سرپرستان) کی ذمہ داریوں کو کم نہیں کرتا جو سکول کو "ضابطہ اخلاق" اور لازمی حاضری کے سٹینڈرڈ لاگو کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اگرچہ بالغ طلباء اپنی حاضری کے خود ذمہ دار ہیں، تاہم، سکول حکام ورجینیا قانون اور سکول ڈویژن کے ضوابط کے تحت طالبعلم/طالبہ کی غیر حاضری کے بارے میں والد والدہ(والدین)/سرپرست(سرپرستان) کو مطلع کرنے کی ضروری کوششیں جاری رکھیں گے۔ اس میں ضابطہ 1-724، "حاضری اور منظور شدہ غیر حاضری" کے تحت حاضری افسر کی شمولیت شامل ہے۔

ورجینیا قانون کے تحت، سکول حکام طالبعلم/طالبہ کے کسی نظم و ضبط کے بارے میں والدین کو مطلع کرنا جاری رکھیں گے۔

معذور بالغ طلباء کیلئے، وفاقی اور ریاستی خصوصی تعلیم کے قوانین متعلقہ حفاظتی اور دیگر حقوق 18 سال کی عمر کو پہنچنے والے معذور طالبعلم/طالبہ کو منتقل کر دیئے جائیں گے جو ان کے والدین کو دیئے گئے تھے۔ تاہم، بالغ طالبعلم/طالبہ کے ساتھ ساتھ والدین/سرپرستوں کو بھی نوٹس بھیجے جاتے رہیں گے۔

ایسوسی ایٹ سپرنٹنڈنٹ برائے اسٹوڈنٹ لرننگ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی (یا نامزد شخص) اس ضابطے کے نفاذ اور نگرانی کے لئے ذمہ دار ہے۔

اس ضابطے اور متعلقہ پالیسیوں کا کم از کم پانچ سالوں میں جائزہ لیا جائے گا اور ضرورت کے مطابق دہرایا جائے گا۔

منسلکہ
ضابطہ 1-725

پرنس ولیم کاؤنٹی پبلک سکولز اٹھارہ سال کی عمر کا اقرار نامہ	
طالبعلم/طالبہ کا نام:	موجودہ پتہ:
کیا آپ کے والد یا والدہ/سرپرست آپ کے ساتھ مندرجہ بالا پتے پر رہتے ہیں؟ جی ہاں جی نہیں	
<u>طالبعلم/طالبہ اور والد یا والدہ/سرپرست پڑھیں:</u>	
<p>ریاستی قانون 18 سال کی عمر کے حقوق متعین کرتا ہے۔ کچھ مخصوص استثنی کے، 18 سال والے، ورجینیا کوڈ § 1-204 کے تحت بالغ تصور کیے جاتے ہیں۔ 18 سال کی عمر کو پہنچنے والے طلباء جو اپنے والدین/سرپرستان کی جگہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو درج ذیل کی اجازت دی جا سکتی ہے، غیر حاضری کے نوٹ اور سکول سے نکلنا (ماسوائے دوپہر کے کھانے کیلئے سکول سے باہر نکلنا)، فیلڈ ٹریس، تیسرے فریقین کا طالبعلم/طالبہ کے ریکارڈ تک رسائی (ماسوائے ان افراد کے جنہیں رضا مندی کے بغیر رسائی حاصل ہے)، جز وقتی ملازمت، گاڑی کا استعمال، پولیس کی پوچھ گچھ فیملی ایجوکیشن رائٹس اینڈ پرائیویسی ایکٹ کے تحت، منحصر طلباء کے والدین/سرپرست (جیسا کہ انٹرنل ریویو کوڈ برائے 1986 کے سیکشن § 152 میں بیان کیا گیا ہے) کو طالبعلم/طالبہ کے ریکارڈ تک رسائی حاصل ہے۔ مزید برآں، ورجینیا کوڈ § 22.1-277 کے تحت، والدین/سرپرست کو طالبعلم/طالبہ کے سکول سے معطلی یا اخراج کے کسی واقعے کی اطلاع بذریعہ خط دی جائے گی۔ لہذا، سکول حکام طالبعلم/طالبہ کے والدین/سرپرست سے سکول کے معاملات اور سکول سے کسی قسم کی معطلی یا اخراج کے بارے میں رابطہ رکھیں گے، اگرچہ طالبعلم/طالبہ نے اقرار نامے کو بھر دیا ہے۔ سکول والدین/سرپرست کو دستخط شدہ اقرار نامے کی نقل بھیج کر اس امر سے مطلع کرے گا۔</p>	
<u>طالبعلم/طالبہ مکمل کریں:</u>	
<p>میں _____، اس اقرار نامے پر دستخط کر کے یہ سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ سکول مجھ سے ایک بالغ کے طور پر بات کرے گا اور میں درج ذیل پر عمل کروں گا/گی:</p> <ul style="list-style-type: none"> • اگر میں غیر حاضر ہوں یا دیر سے آتا/آتی ہوں تو میں تمام طلباء پر نافذ العمل حاضری کے طریقہ کار پر عمل کروں گا/گی۔ • میں ان صورت حالوں میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھوں گا/گی جہاں عام طور پر والدین/سرپرست، ان کی اجازت یا دستخط درکار ہیں۔ اس ذمہ داری میں حاضری، فیلڈ ٹریپ کی اجازت، کھیلوں کے جسمانی فارم، جز وقتی ملازمت، گاڑی کا استعمال اور پولیس کی پوچھ گچھ شامل ہے۔ • میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ میرے ہر استاد/استانی کو مطلع کیا گیا ہے کہ میں نے اقرار نامے پر دستخط کیے ہیں۔ • میں اس اقرار نامے کی نقل اپنے ساتھ رکھوں گا/گی اور درخواست کرنے پر سکول حکام پر دکھاؤں گا/گی۔ • میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ مجھے سکول ڈویژن ک تمام پالیسیوں اور ضوابط کی تعمیل کرنا ہے ماسوائے ان کے جو اس اقرار نامے میں درج ہیں۔ • میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ کچھ حالات میں سکول میرے والد یا والدہ/قانونی سرپرست سے رابطہ کر سکتا ہے۔ ان حالات میں درج ذیل شامل ہیں مگر ان تک محدود نہیں، "ضابطہ اخلاق کی شدید خلاف ورزی"، سکول سے معطلی اور/یا اخراج، اور میری ذہنی یا جسمانی صحت اور بہبود سے متعلق خدشات۔ میں یہ بھی سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ میرے والدین/سرپرستان معاملات سے متعلق تحریری اطلاع ناموں کی نقول وصول کریں گے۔ 	
_____	_____
طالبعلم/طالبہ کے دستخط - تاریخ	پرنسپل/نامزد کردہ کے دستخط - تاریخ
فارم نمبر - 7530-0641 (نظر ثانی شدہ 18-7)	